

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن 9 اکتوبر کو سٹی ہال میں وفاقی انتخابات کے مقامی امیدواروں کو مدعو کر رہا ہے

برامپٹن، آن (20 ستمبر 2019) - کینیڈا کے 2019 کے وفاقی انتخابات سے پہلے، رہائشیوں کو درپیش اہم مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن مورخہ 9 اکتوبر کو ٹاؤن ہال میں مقامی امیدواروں کو مدعو کر رہا ہے۔

اس تقریب میں عوام بھی شرکت کر سکیں گے اور اس کا انعقاد روز تھیٹر میں شام 7 بجے کیا جائے گا۔ جیسا کہ نشستوں کی گنجائش محدود ہے، لہذا رہائشیوں سے [روز تھیٹر کی ویب سائٹ پر](#) رجسٹر ہونے کی گزارش کی جاتی ہے۔ یہ تقریب فیس بک پر بھی براہ راست نشر کی جائے گی۔

2041 تک برامپٹن کے رہائشیوں کی تعداد 900,000 سے بڑھ جانے کی توقع ہے۔ کینیڈا کے نوجوان ترین اور تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر، آبادی میں متوقع اضافہ کو عوامی توقعات کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔

اعلیٰ حکومتی سطحوں تک اپنی شراکت داریوں کو تقویت پہنچاتے ہوئے، سٹی آف برامپٹن کا مقصد دیرپا معاشی اثرات کے لیے ایسے پروجیکٹس کا آغاز کرنا ہے جن سے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں اور معاشرے کے فخر اور شہریوں کے معیار زندگی میں اضافہ کیا جائے۔ سٹی کی وفاقی ترجیحات کی مکمل فہرست کے لیے [شہر کی ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

### اقتباس

"ہمارے کیے جانے والے فیصلوں کے مقامی مسائل پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں - اور ہمیں برامپٹن کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے مقامی نمائندوں کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے نوجوان ترین اور تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر، وفاقی حکومت کی معاونت اور شراکت داری برامپٹن کی ترجیحات پر پورا اترنے اور وژن کو حاصل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم اس حوالے سے ایک بامعنی بحث کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نقل و حرکت، معاشی ترقی، کمیونٹی سیفٹی، جدت اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے شراکت دار کیسے کوئی عملی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہویم سے [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

[Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca) | 905-874-3426